



سوال

(46) اگر مقتدی نماز میں قراءت کی آواز بلند کرے تو کیا حکم ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

دوران نماز مقتدی اگر قراءت کی آواز کرے جبکہ پیچھے اس مقتدی کے پہلو میں دوسرے مقتدی ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟

عبدالرزاق - س - القصیم

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

دوران نماز مقتدی کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ اپنی قراءت، باقی اذکار اور دعائیں سب دھیمی آواز سے کرے۔ کیونکہ اس بلند آواز سے پڑھنے پر کوئی دلیل موجود نہیں اور اس لیے بھی کہ اس کی بلند آواز سے پڑھنے سے ارد گرد کے نمازیوں کو تشویش ہوگی۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ ابن باز رحمہ اللہ

جلد اول - صفحہ 68

محدث فتویٰ